

پی ایس ڈی ایف اور Gnowbe نے پاکستان میں مفت آن لائن کووڈ 19 انفیکشن سے بچانے اور کنٹرول، کورس پیش کر دیا

لاہور (پریس ریلیز) پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ (پی ایس ڈی ایف) اور بین الاقوامی پلیٹ فارم Gnowbe نے مشترکہ طور پر "Stay Protected with Infection Control and Prevention 101 Program" کے ذریعہ پاکستان کے عام لوگوں کو وائرس کی نوعیت اور اس کی منتقلی، اور انہیں کووڈ 19 (کورونا) کی وباء کے دوران حفاظت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کیلئے ایک آن لائن پروگرام کی پیشکش کی ہے۔

یہ 30 منٹ کا مفت کورس، سنگاپور کے معروف Ngee Ann Polytechnic کی طرف سے ای لرننگ پلیٹ فارم Gnowbe پر فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے انفیکشن سے پھیلنے والی بیماریوں جیسا کہ کووڈ 19 (کورونا) کے تیزی سے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دونوں اداروں کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں، پی ایس ڈی ایف نے عوام تک عام رسائی کیلئے اس کورس کا ایک اردو میں ورژن تیار کیا ہے۔

اس کورس میں عام عوام کو مفت رسائی حاصل ہوگی، یہ خاص طور پر وزیر اعظم کی ٹائیگر فورس، فیلڈ میں کام کرنے والے رضا کاروں جس میں کھانا اور دیگر اہم خدمات فراہم کرنے والوں، بینک ملازمین، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور قریبی حلقوں میں رہنے والے لوگ جہاں بیماری پھیلنے کے سب سے زیادہ امکانات ہیں۔

اہم اور ضروری معلومات فراہم کرنے کیلئے ایک آسان طریقہ اختیار کیا گیا ہے، کورس میں عوام کی آگاہی کیلئے معلوماتی ویڈیوز، تربیتی مواد اور مشقوں کے امتزاج کا استعمال کیا گیا ہے۔ کورس کے مواد میں دو اہم موضوعات شامل کئے گئے ہیں جس میں 'انفیکشن ٹرانسمیشن' (جو اس وباء کے مرض اور اس کی منتقلی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے) اور انفیکشن سے بچانے (جو ہاتھ دھونے، حفظان صحت کے ذریعہ روک تھام اور ذاتی حفاظتی سامان PPE پہننے کے سیشنز پر مشتمل ہوتا ہے)۔ جو لوگ کامیابی سے اس کورس کو مکمل کریں گے انہیں سنگاپور کے اسکول آف ہیلتھ سائنسز، Ngee Ann Polytechnic سے بین الاقوامی سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا۔

Gnowbe کے ساتھ شراکت داری کے موقع پر پی ایس ڈی ایف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جواد خان کا کہنا تھا کہ مستقبل پر نظر رکھنے والے ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں جو پاکستان کے اس مشکل وقت میں یہ کورس پیش کر رہا ہے۔ پی ایس ڈی ایف کووڈ 19 وباء سے بچانے اور کنٹرول سے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنے میں سرفہرست اپنا قلمی کردار ادا کر رہا ہے۔

سنگاپور میں Gnowbe پہلے ہی عام لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کیلئے مانڈارن، عربی، مالے اور جرمن سمیت 8 مختلف زبانوں میں مفت 'Stay Protected with Infection control and prevention 101' کورس کے اس پلیٹ فارم کا استعمال کر رہا ہے۔ پی ایس ڈی ایف کے ساتھ شراکت داری سے اس مینومیں اردو زبان بھی شامل ہو جائے گی۔

اگر آپ بھی اس کورس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو درج لنک کے ذریعہ اس کورس تک مفت رسائی حاصل کریں:
انگریزی کیلئے : <https://learn.gnowbe.com/infection-prevention-control-101>
اردو کیلئے : <https://gnow.be/seykj3?s=1>

پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ (پی ایس ڈی ایف) "پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی ایک کامیاب مثال" کے بارے میں:

پی ایس ڈی ایف پاکستان میں نوجوانوں کیلئے سب سے بڑا سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ ہے۔ یہ پیشہ وارانہ تربیت میں قائدانہ کردار ادا کرنے کیلئے 500 سے زائد تربیتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کر کے 10 سیکٹروں میں 200 کاروباری اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ پی ایس ڈی ایف کے 2400 سے زائد مقامات پر تربیت حاصل کرنے والوں میں 40 فیصد اکثریت خواتین کی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے اشتراک سے پاکستان میں سکلز گیپ کو کم کرنے کیلئے پی ایس ڈی ایف نیشنل ایکسیلیٹیو کی بھی قیادت کر رہا ہے۔

پی ایس ڈی ایف میڈیا معلومات:

کمیونیکیشن ٹیم

پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ (پی ایس ڈی ایف)

رابطہ: +92-42-35752408-10

ای میل: communications@psdf.org.pk

سوشل میڈیا پر پی ایس ڈی ایف کا رابطہ:

www.psdf.org.pk	:	ویب سائٹ
(Punjab Skills Development Fund (PSDF	:	LinkedIn
punjabskillsdevelopmentfund/	:	Facebook
PSDF_official@	:	Twitter
/punjabskillsdevelopmentfund	:	YouTube

Gnowbe کے بارے میں:

GnowBe موبائل کا پہلا تربیتی اور معلوماتی پلیٹ فارم ہے، جو بہترین تربیتی مواد کے ذریعہ آپ کے سیکھنے کے عمل کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور انہیں مائیکرو ایکشنز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ادارے کا مقصد صرف سیکھانا، سوچنا، عمل کرنا، پھیلانا اور نئے تصورات کو سیکھنا شامل ہے۔ سوچنا اور غور کرنا کہ اس مینکسی شخص کیلئے کیا مقصد ہو سکتا ہے اور ہر روز چھوٹے چھوٹے اعمال میں اصولوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ساتھیوں کے اشتراک سے سیکھنا تربیتی سفر کا ایک حصہ ہے۔